

144830 - عرفات میں وقوف کا وقت دس ذوالحجہ کی فجر تک ہے

سوال

میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، ان شاء اللہ اس برس حج پر جانے کا ارادہ ہے، لیکن میری ملازمت کا معاملہ ایسا ہے کہ میری فلائٹ نو ذوالحجہ کو صبح دس بجے ہے تو کیا اگر میں سیدھا میدان عرفات جا کر باقی حج کے مناسک پورے کروں تو کیا میرا حج صحیح ہوگا کیونکہ وقوف عرفات سے پہلے منی کے مناسک ادا نہیں کرسکوں گا۔ اور اگر میری فلائٹ لیٹ ہو جائے اور میں مغرب کے بعد میدان عرفات پہنچوں تو میرا حج ضائع ہو جائیگا، میرا یہ فرضی حج ہے، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے میدان عرفات میں کب پہنچنا چاہیے تا کہ میرا حج صحیح رہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

نو ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں احرام باندھ کر سیدھے میدان عرفات چلے جائیں تو آپ کا حج صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نو ذوالحجہ والے دن ظہر سے لیکر دس ذوالحجہ کی فجر تک کے دوران میدان عرفات میں گئے ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت وقوف عرفہ کا وقت ہے۔

اس کی دلیل سنن نسائی اور ترمذی اور سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ کی درج ذیل حدیث ہے:

عروہ بن مضرس الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مزدلفہ میں آیا کہ آپ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے تو میں نے عرض کیا:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جبل طئی کے علاقے سے آیا ہوں اور میں نے اپنی سواری کو بھی تھکایا اور خود بھی تھکا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کوئی ریت کا ٹیلا نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے تو کیا میرا حج ہوا ہے یا نہیں؟

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ یہ نماز (فجر) ادا کی اور وہ ہمارے ساتھ ٹھہرا رہا حتیٰ کہ ہم پہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس سے قبل اس نے رات یا دن کے وقت میدان عرفات میں وقوف بھی کر لیا ہو تو اس نے اپنا حج پورا کر لیا اور اپنی عبادت پوری کر لی "

سنن ترمذی حدیث نمبر (891) سنن نسائی حدیث نمبر (3039) سنن ابو داود حدیث نمبر (1950) سنن ابن ماجہ

حدیث نمبر (3016) امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

قولہ: تفتہ کا معنی نسکہ ہے یعنی اس نے اپنی عبادت مکمل کر لی۔

اور قولہ: " میں نے کوئی ریت کا ٹیلا نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے "

اگر ریت کا ٹیلا ہو تو اسے حبل کہتے ہیں، اور اگر وہ پتھروں کا ہو تو اسے جبل کہا جاتا ہے۔

کئی علماء کرام نے اس پر اتفاق بیان کیا ہے کہ یوم نحر کی فجر تک وقوف عرفہ کا وقت ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

وقوف عرفہ کا وقت یوم عرفہ کے دن زوال سے شروع ہو کر یوم النحر کی طلوع فجر تک ہے، امام مالک اور ابو حنیفہ اور جمہور علماء کرام کا مسلک یہی ہے۔

قاضی ابو طیب اور عبدری رحمہ اللہ کہتے ہیں: امام احمد رحمہ اللہ کے علاوہ سب علماء کا یہی قول ہے، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں: وقوف عرفہ کا وقت یوم عرفہ کی طلوع فجر سے لیکر یوم نحر کی طلوع فجر تک ہے " انتہی

دیکھیں: المجموع (8 / 141)۔

اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

ہمارے علم کے مطابق تو وقوف عرفہ کا وقت یوم نحر کی طلوع فجر تک ہے اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

" مزدلفہ کی رات طلوع فجر تک (وقوف عرفہ) سے حج فوت نہیں ہوتا۔

ابو زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے ؟

تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: جی ہاں "

اسے اثرم نے روایت کیا ہے۔

رہا وقوف عرفہ کا ابتدائی وقت تو یہ یوم عرفہ کی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جس نے بھی اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت بھی پا لیا اور وہ عاقل بھی ہو تو اس نے اپنا حج مکمل کر لیا۔

امام مالك اور امام شافعى رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اول وقت يوم عرفہ کے زوال سے شروع ہوتا ہے....

جو شخص کسی بھی طرح عرفہ میں وقوف کر لے اور وہ عاقل ہو چاہے وقوف کھڑے ہو کر کیا ہو یا بیٹھ کر یا سواری پر یا پھر سو کر، اور چاہے وہ عرفات کو کراس کرتا ہو گزرے اور اسے یہ علم بھی نہ ہو کہ یہ عرفات ہے تو بھی کافی ہوگا امام مالك اور امام شافعى اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے " انتہی

دیکھیں: المغنی (3 / 211).

مزید فائدہ کے لیے آپ سوال نمبر (106581) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں.

اس بنا پر جب حاجی يوم نحر یعنی دس ذوالحجہ کی طلوع فجر سے قبل میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس نے حج پا لیا، اسے حج کے باقی مناسک اور اعمال بھی مکمل کرنا ہونگے.

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی سعی قبول فرمائے.

واللہ اعلم .